

Eph

Chapter 4

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

- 1 Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν Κυρίῳ, ἀξίως περιπατῆσαι,
اس لیے-التجا-کرتا-ہوں پس تمہیں میں وہ قیدی میں خداوند لائق چلنے-کو
[G3870](#) [G3767](#) [G4771](#) [G1473](#) [G3588](#) [G1198](#) [G1722](#) [G2962](#) [G0516](#) [G4043](#)
- τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε;
کے بُلاہت جس بُلائے-گئے
[G3588](#) [G2821](#) [G3739](#) [G2564](#)

بے۔بُلاہا کو آپ نے خدا لے کے جس چلیں مطابق کے زندگی اُس کہ ہوں کرتا تاکید کو آپ ہوں قیدی میں خداوند جو میں چنانچہ

- 2 μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πραΰτητος, μετὰ μακροθυμίας, ἀνεχόμενοι
ساتھ تمام عاجزی اور حلیمی ساتھ صبر برداشت-کرتے-ہوئے
[G3326](#) [G3956](#) [G5012](#) [G2532](#) [G4240](#) [G3326](#) [G3115](#) [G0430](#)
- ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ;
ایک-دوسرے میں محبت
[G0240](#) [G1722](#) [G0026](#)

کریں۔برداشت اُسے کر رکھ محبت سے دوسرے ایک اور لیں کام سے صبر رہیں، دل نرم اور حلیم وقت ہر

- 3 σπουδάζοντες τηρεῖν τὴν ἐνότητα τοῦ Πνεύματος, ἐν τῷ συνδέσμῳ
کوشش-کرتے-ہوئے قائم-رکھنے-کو وہ یگانگت کے روح میں اُس بندھن
[G4704](#) [G5083](#) [G3588](#) [G1775](#) [G3588](#) [G4151](#) [G1722](#) [G3588](#) [G4886](#)
- τῆς εἰρήνης.
کے سلامتی
[G3588](#) [G1515](#)

کریں۔کوشش پوری کی رکھنے قائم یگانگت کی روح کر رہ میں بندھن کے سلامتی صلح

- 4 ἐν σῶμα καὶ ἐν Πνεύμα, καθὼς καὶ ἐκλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι, τῆς
ایک بدن اور ایک روح جیسا-کہ بھی بُلائے-گئے میں ایک امید کے
[G1520](#) [G4983](#) [G2532](#) [G1520](#) [G4151](#) [G2531](#) [G2532](#) [G2564](#) [G1722](#) [G1520](#) [G1680](#) [G3588](#)
- κλήσεως ὑμῶν --
بُلاہت تمہاری
[G2821](#) [G4771](#)

گیا۔بُلاہا لے کے امید ہی ایک بھی کو آپ یوں ہے۔روح ہی ایک اور بدن ہی ایک

- 5 εἷς Κύριος, μία πίστις, ἐν βάπτισμα;
ایک خداوند ایک ایمان ایک ہیبتسمہ
[G1520](#) [G2962](#) [G1520](#) [G4102](#) [G1520](#) [G0908](#)

ہے۔ہیبتسمہ ایک ایمان، ایک خداوند، ایک

6 εἷς Θεὸς καὶ Πατὴρ πάντων, ὁ ἐπὶ πάντων, καὶ διὰ πάντων,
 ایک خدا اور باپ سب-کا وہ-جو سب پر اور کے-ذریعے سب
[G1520](#) [G2316](#) [G2532](#) [G3962](#) [G3956](#) [G3588](#) [G1909](#) [G3956](#) [G2532](#) [G1223](#) [G3956](#)

καὶ ἐν πᾶσιν.
 اور میں سب
[G2532](#) [G1722](#) [G3956](#)

ہے۔ موجود میں سب اور ہے کرتا کام ذریعے کے سب ہے، مالک کا سب وہ ہے۔ باپ واحد کا سب جو ہے، خدا ایک

7 Ἐνὶ δὲ ἐκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις, κατὰ τὸ μέτρον τῆς
 ایک-ایک لیکن ہر-ایک ہم-میں-سے دیا-گیا وہ فضل کے-مطابق اُس پیمائش کے
[G1520](#) [G1161](#) [G1538](#) [G1473](#) [G1325](#) [G3588](#) [G5485](#) [G2596](#) [G3588](#) [G3358](#) [G3588](#)

δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ.
 بخشش کے مسیح
[G1431](#) [G3588](#) [G5547](#)

ہے۔ کرتا عطا فضل یہ سے پیمانے مختلف کو ایک ہر مسیح لیکن گیا۔ بخشا فضل کا اللہ کو سب ہم اب

8 διὸ λέγει, Ἀναβὰς εἰς ὕψος, ἠχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν, (καὶ) ἔδωκεν
 اس-لیے کہتا-ہے چڑھ-کر میں اونچائی قید-کر-لیا قید اور دیا
[G1352](#) [G3004](#) [G0305](#) [G1519](#) [G5311](#) [G0162](#) [G0161](#) [G2532](#) [G1325](#)

δόματα τοῖς ἀνθρώποις.
 تحائف اُن انسانوں
[G1390](#) [G3588](#) [G0444](#)

دیئے۔ تحفے کو آدمیوں اور لیا کر گرفتار ہجوم کا قیدیوں کر چڑھ پر بلندی نے اُس ہے، فرماتا مقدس کلام لئے اِس

9 τὸ δὲ, Ἀνέβη, τί ἐστιν, εἰ μὴ ὅτι καὶ, κατέβη εἰς τὰ
 وہ لیکن چڑھا کیا ہے اگر نہیں کہ بھی اترا میں وہ
[G3588](#) [G1161](#) [G0305](#) [G5101](#) [G1510](#) [G1487](#) [G3361](#) [G3754](#) [G2532](#) [G2597](#) [G1519](#) [G3588](#)

κατώτερα μέρη τῆς γῆς?
 نیچے حصوں کے زمین
[G2737](#) [G3313](#) [G3588](#) [G1093](#)

اُتر۔ میں گہرائیوں کی زمین وہ پہلے کہ ہے مطلب کا اِس ہے۔ گیا کیا ذکر کا چڑھنے کہ کریں غور اب

10 ὁ καταβὰς, αὐτὸς ἐστὶν καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν,
 وہ اترنے-والا وہی ہے بھی وہ چڑھنے-والا بالاتر تمام اُن آسمانوں
[G3588](#) [G2597](#) [G0846](#) [G1510](#) [G2532](#) [G3588](#) [G0305](#) [G5231](#) [G3956](#) [G3588](#) [G3772](#)

ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα.
 تاکہ بھر-دے وہ سب-کچھ
[G2443](#) [G4137](#) [G3588](#) [G3956](#)

کرے۔ معمور سے آپ اپنے کو کائنات تمام تاکہ گیا چڑھ اونچا سے آسمانوں تمام جو ہے وہی وہ اُترا جو

11 καὶ αὐτὸς ἔδωκεν τοῖς μὲν ἀποστόλους, τοῖς δὲ προφήτας, τοῖς δὲ
 اور اسی-نے دیا انہیں تو رسول انہیں اور نبی اور انہیں اور
[G2532](#) [G0846](#) [G1325](#) [G3588](#) [G3303](#) [G0652](#) [G3588](#) [G1161](#) [G4396](#) [G3588](#) [G1161](#)

εὐαγγελιστάς, τοῖς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους,
 مبشر انہیں اور چرواہے اور استاد
[G2099](#) [G3588](#) [G1161](#) [G4166](#) [G2532](#) [G1320](#)

ہیں۔ استاد بعض اور چرواہے بعض مبشر، بعض نبی، بعض رسول، بعض نواز۔ سے خداموں کے طرح طرح کو جماعت اپنی نے اُسی

12 πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἀγίων; εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν
 کے لیے اس تیاری کے مقدسوں کے لیے کام خدمت کے لیے تعمیر
[G4314](#) [G3588](#) [G2677](#) [G3588](#) [G0040](#) [G1519](#) [G2041](#) [G1248](#) [G1519](#) [G3619](#)

τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ,
 کے بدن کے مسیح
[G3588](#) [G4983](#) [G3588](#) [G5547](#)

جائے۔ جو ترقی و تعمیر کی بدن کے مسیح یوں اور جائے کیا تیار لے کے کرنے خدمت کو مقدسین کہ ہے یہ مقصد کا ان

13 μέχρι καταστήσωμεν οἱ πάντες, εἰς τὴν ἐνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς
 جب تک پہنچیں وہ سب میں اُس یگانگت کے ایمان اور کے
[G3360](#) [G2658](#) [G3588](#) [G3956](#) [G1519](#) [G3588](#) [G1775](#) [G3588](#) [G4102](#) [G2532](#) [G3588](#)

ἐπιγνώσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας
 پہچان کے کے بیٹے کے خدا میں مرد کامل میں پیمائش قد
[G1922](#) [G3588](#) [G5207](#) [G3588](#) [G2316](#) [G1519](#) [G0435](#) [G5046](#) [G1519](#) [G3358](#) [G2244](#)

τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ;
 کے معموری کے مسیح
[G3588](#) [G4138](#) [G3588](#) [G5547](#)

کریں منعکس کو بلوغت اور معموری کی مسیح کر مل ہم اور گے، جائیں ہو بالغ کر ہو ایک میں پہچان کی فرزند کے اللہ اور ایمان سب ہم سے طریقے اس گے۔

14 ἵνα μηκέτι ὦμεν νήπιοι, κλυδωνιζόμενοι καὶ περιφερόμενοι παντὶ
 تاکہ اب نہیں رہیں بچے لہروں میں ہلچل-مچل-بوٹے اور ادھر-ادھر لے-جانے والے ہر
[G2443](#) [G3371](#) [G1510](#) [G3516](#) [G2831](#) [G2532](#) [G4064](#) [G3956](#)

ἀνέμῳ τῆς διδασκαλίας, ἐν τῇ κυβείᾳ τῶν ἀνθρώπων, ἐν πανουργίᾳ
 ہوا کے کے تعلیم میں اُس چالاکی کے انسانوں میں چالبازی
[G0417](#) [G3588](#) [G1319](#) [G1722](#) [G3588](#) [G2940](#) [G3588](#) [G0444](#) [G1722](#) [G3834](#)

πρὸς τὴν μεθοδεῖαν τῆς πλάνης;
 کی طرف اُس چال کے گمراہی
[G4314](#) [G3588](#) [G3180](#) [G3588](#) [G4106](#)

میں جالوں اپنے ہمیں سے بازی دھوکے اور چالاکی اپنی لوگ جب گے رہیں نہیں پھرتے اچھلتے سے جھونکے ایک ہر کے تعلیم اور گے، رہیں نہیں بچے ہم پھر گے۔ کریں کوشش کی پھنسانے

15 ἀληθεύοντες δὲ ἐν ἀγάπῃ, αὐξήσωμεν εἰς αὐτὸν τὰ πάντα, ὅς ἐστιν
 سچ-بولتے-ہوئے لیکن میں میں محبت بڑھیں میں اُس وہ سب-کچھ جو ہے
[G0226](#) [G1161](#) [G1722](#) [G0026](#) [G0837](#) [G1519](#) [G0846](#) [G3588](#) [G3956](#) [G3739](#) [G1510](#)

ἢ κεφαλῇ, Χριστός;
 وہ سر مسیح
[G3588](#) [G2776](#) [G5547](#)

ہے۔ سر ہمارا جو گے جائیں بڑھتے طرف کی مسیح سے لحاظ ہر کے کر بات سچی میں روح کی محبت ہم بجائے کے اس

- 16 ἔξ οὗ πάν τὸ σῶμα, συναρμολογούμενον καὶ συμβιβαζόμενον διὰ
 سے جس سارا وہ بدن جوڑا-بوا اور بندھا-بوا کے-ذریعے
[G1537](#) [G3739](#) [G3956](#) [G3588](#) [G4983](#) [G4883](#) [G2532](#) [G4822](#) [G1223](#)
- πάσης ἀφῆς τῆς ἐπιχορηγίας κατ', ἐνέργειαν ἐν μέτρῳ ἐνὸς ἑκάστου
 ہر جوڑ کے مدد کے-مطابق عمل میں پیمائش ایک ہر-ایک
[G3956](#) [G0860](#) [G3588](#) [G2024](#) [G2596](#) [G1753](#) [G1722](#) [G3358](#) [G1520](#) [G1538](#)
- μέρους, τὴν αὕξησιν τοῦ σώματος ποιεῖται εἰς οἰκοδομὴν ἑαυτοῦ ἐν
 حصے وہ بڑھوتری کے بدن کرتا-ہے کے-لیے تعمیر اپنے-آپ-کی میں
[G3313](#) [G3588](#) [G0838](#) [G3588](#) [G4983](#) [G4160](#) [G1519](#) [G3619](#) [G1438](#) [G1722](#)
- ἀνάπη.
 محبت
[G0026](#)

اور ہے، کرتا کام موافق کے طاقت اپنی حصہ ہر ہے۔ دیتا کر متحد کر جوڑ ساتھ کے دوسرے ایک کو حصوں مختلف کے بدن پورے ذریعے کے نسوں وہی ہے۔ رہتا کرتا تعمیر اپنی اور بڑھتا میں روح کی محبت بدن پورا یوں

- 17 Τοῦτο οὖν λέγω, καὶ μαρτύρομαι ἐν Κυρίῳ, μηκέτι ὑμᾶς περιπατεῖν
 یہ پس کہتا-ہوں اور گواہی-دیتا-ہوں میں خداوند اب-نہیں تم چلو
[G3778](#) [G3767](#) [G3004](#) [G2532](#) [G3143](#) [G1722](#) [G2962](#) [G3371](#) [G4771](#) [G4043](#)
- καθὼς καὶ τὰ ἔθνη περιπατεῖ, ἐν ματαιότητι τοῦ νοῦς αὐτῶν.
 جیسے بھی وہ قومیں چلتی-ہیں میں بطالت کے ذہن کے
[G2531](#) [G2532](#) [G3588](#) [G1484](#) [G4043](#) [G1722](#) [G3153](#) [G3588](#) [G3563](#) [G0846](#)

ہے۔ کار سوچ کی جن گزاریں نہ زندگی طرح کی داروں غیرایمان سے اب کہ ہوں کرتا آگاہ کو آپ میں نام کے خداوند میں پس

- 18 ἔσκοτωμένοι τῇ διανοίᾳ, ὄντες ἀπηλλοτριωμένοι τῆς ζωῆς τοῦ Θεοῦ,
 اندھیرے-ہوئے سے سمجھ ہوتے-ہوئے الگ-کیے-ہوئے سے زندگی کے خدا
[G4656](#) [G3588](#) [G1271](#) [G1510](#) [G0526](#) [G3588](#) [G2222](#) [G3588](#) [G2316](#)
- διὰ τὴν ἄγνοιαν τὴν οὖσαν ἐν αὐτοῖς, διὰ τὴν πώρωσιν τῆς
 کے-ذریعے اُس جہالت اُس ہونے-والی میں اُن کے-ذریعے اُس سختی کے
[G1223](#) [G3588](#) [G0052](#) [G3588](#) [G1510](#) [G1722](#) [G0846](#) [G1223](#) [G3588](#) [G4457](#) [G3588](#)
- καρδίας αὐτῶν,
 دل اُن-کے
[G2588](#) [G0846](#)

گئے ہو سخت دل کے اُن اور ہیں جاہل وہ کیونکہ ہے، دیتا اللہ جو نہیں حصہ کوئی میں زندگی اُس کا اُن ہے۔ میں گرفت کی اندھیرے سمجھ کی جن اور ہیں۔

- 19 οἵτινες ἀπηληγότες, ἑαυτοῦς παρέδωκαν τῇ ἀσελγείᾳ, εἰς ἐργασίαν
 جو بے-حس-ہو-کر ہے اپنے-آپ-کو دے-دیا اُس ہے-حیائی کے-لیے کاروبار
[G3748](#) [G0524](#) [G1438](#) [G3860](#) [G3588](#) [G0766](#) [G1519](#) [G2039](#)
- ἀκαθαρσίας, πάσης ἐν πλεονεξίᾳ.
 ناپاکی ہر میں لالچ
[G0167](#) [G3956](#) [G1722](#) [G4124](#)

ہیں۔ کرتے حرکتیں ناپاک کی قسم ہر ساتھ کے پیاس والی بچھنے نہ وہ یوں دیا۔ کر حوالے کے عیاشی کو آپ اپنے نے اُنہوں کر ہو ہے جس

- 20 ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως ἐμάθετε τὸν Χριστόν,
 تم لیکن نہیں یوں سیکھا وہ مسیح
[G4771](#) [G1161](#) [G3756](#) [G3779](#) [G3129](#) [G3588](#) [G5547](#)

جانا۔ نہیں یوں کو مسیح نے آپ لیکن

- 21 εἶ γε αὐτὸν ἠκούσατε καὶ ἐν αὐτῷ ἐδιδάχθητε, καθὼς ἐστὶν ἀλήθεια
 اگر یقیناً اُسے سنا اور میں اُس سکھائے-گئے، جیسے-کہ ہے سچائی
[G1487](#) [G1065](#) [G0846](#) [G0191](#) [G2532](#) [G1722](#) [G0846](#) [G1321](#) [G2531](#) [G1510](#) [G0225](#)
- ἐν τῷ Ἰησοῦ;
 میں اُس یسوع
[G1722](#) [G3588](#) [G2424](#)

ہے۔ میں عیسیٰ جو گئی سکھائی سچائی وہ کو آپ کر ہو میں اُس اور ہے، لیا سن میں بارے کے اُس تو نے آپ

- 22 ἀποθέσθαι ὑμᾶς, κατὰ τὴν προτέραν ἀναστροφὴν, τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον,
 اتارنے-کو تم کے-مطابق اُس پہلی چال-چلن وہ پرانا انسان
[G0659](#) [G4771](#) [G2596](#) [G3588](#) [G4386](#) [G0391](#) [G3588](#) [G3820](#) [G0444](#)
- τὸν φθειρόμενον, κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τῆς ἀπάτης;
 وہ بگڑتا-ہوا کے-مطابق اُن خواہشوں کے دھوکے
[G3588](#) [G5351](#) [G2596](#) [G3588](#) [G1939](#) [G3588](#) [G0539](#)

ہے۔ رہا جا بگڑتا سے شہوتوں باز دھوکے اپنی وہ کیونکہ دینا، اُتار سمیت چلن چال پرانے کے اُس کو انسان پرانے اپنے چنانچہ

- 23 ἀνανεοῦσθαι δὲ τῷ πνεύματι τοῦ νοῦς ὑμῶν;
 نیا-کیے-جانے-کو لیکن سے روح کے ذہن تمہارے
[G0365](#) [G1161](#) [G3588](#) [G4151](#) [G3588](#) [G3563](#) [G4771](#)

دیں کرنے تجدید کی سوچ کی آپ کو اللہ

- 24 καὶ ἐνδύσασθαι τὸν καινὸν ἄνθρωπον, τὸν κατὰ Θεὸν κτισθέντα ἐν
 اور پہننے-کو وہ نیا انسان وہ کے-مطابق خدا بنانا-گیا میں
[G2532](#) [G1746](#) [G3588](#) [G2537](#) [G0444](#) [G3588](#) [G2596](#) [G2316](#) [G2936](#) [G1722](#)
- δικαιοσύνη καὶ ὁσιότητι τῆς ἀληθείας.
 راستبازی اور پاکیزگی کے سچائی
[G1343](#) [G2532](#) [G3742](#) [G3588](#) [G0225](#)

ہے۔ مشابہ کے اللہ میں قدوسیت اور بازی راست حقیقی وہ کہ ہے گیا بنایا یوں جو لیں بہن کو انسان نئے اور

- 25 Διὸ ἀποθέμενοι τὸ ψεῦδος, λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστος μετὰ τοῦ πλησίον
 اِس-لیے اتار-کر وہ جھوٹ بولو سچ ہر-ایک ساتھ اُس پڑوسی
[G1352](#) [G0659](#) [G3588](#) [G5579](#) [G2980](#) [G0225](#) [G1538](#) [G3326](#) [G3588](#) [G4139](#)
- αὐτοῦ, ὅτι ἐσμὲν ἀλλήλων μέλη.
 اپنے کہ ہیں ایک-دوسرے اعضا
[G0846](#) [G3754](#) [G1510](#) [G0240](#) [G3196](#)

ہیں۔ اعضا کے بدن ہی ایک سب ہم کیونکہ کرے، بات سچ سے دوسروں کر رہ باز سے جھوٹ شخص ہر لئے اِس

- 26 ὀργίζεσθε, καὶ μὴ ἀμαρτάνετε; ὁ ἥλιος μὴ ἐπιδυέτω ἐπὶ [τῷ]
 غصہ-کرو اور نہ گناہ-کرو وہ سورج نہ ڈوبے پر اُس
[G3710](#) [G2532](#) [G3361](#) [G0264](#) [G3588](#) [G2246](#) [G3361](#) [G1931](#) [G1909](#) [G3588](#)
- παροργισμῷ ὑμῶν,
 غصے تمہارے
[G3950](#) [G4771](#)

جائے، ہو ٹھنڈا تک ہونے غروب کے سورج غصہ کا آپ کرنا۔ مت گناہ وقت آتے میں غصے

- 27 μηδὲ δίδοτε τὸν τῷ διαβόλῳ.
 اور-نہ دو جگہ اُس شیطان
[G3366](#) [G1325](#) [G5117](#) [G3588](#) [G1228](#)

گے۔ دیں موقع کا کرنے کام میں زندگی اپنی کو ابلیس آپ ورنہ

28 ὁ κλέπτων μηκέτι κλεπτέτω; μᾶλλον δὲ κοπιάτω, ἐργαζόμενος ταῖς
 وہ چوری-کرنے-والا اب-نہیں چوری-کرے بلکہ لیکن محنت-کرے کام-کرتے-ہوئے اُن
[G3588](#) [G2813](#) [G3371](#) [G2813](#) [G3123](#) [G1161](#) [G2872](#) [G2038](#) [G3588](#)

ιδίαις χερσὶν τὸ ἀγαθόν, ἵνα ἔχη μεταδιδόναι τῷ χρεῖαν ἔχοντι.
 اپنے ہاتھوں وہ اچھا تاکہ ہو دیبے-کو اُس-کو ضرورت والے رکھنے-والے
[G2398](#) [G5495](#) [G3588](#) [G0018](#) [G2443](#) [G2192](#) [G3330](#) [G3588](#) [G5532](#) [G2192](#)

سکے۔ دے کچھ بھی کو مندوں ضرورت کہ کماٹے اتنا وہ ہاں، کرے۔ کام اچھا سے ہاتھوں اپنے کے کر مشقت محنت خوب بلکہ کرے نہ چوری سے اب چور

29 πᾶς λόγος σαπρὸς ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν, μὴ ἐκπορευέσθω, ἀλλὰ, εἴ
 ہر بات گندی سے اُس منہ تمہارے نہ نکلے بلکہ اگر
[G3956](#) [G3056](#) [G4550](#) [G1537](#) [G3588](#) [G4750](#) [G4771](#) [G3361](#) [G1607](#) [G0235](#) [G1487](#)

τις ἀγαθὸς, πρὸς οἰκοδομὴν τῆς χρείας, ἵνα δῶ χάριν τοῖς ἀκούουσιν.
 کوئی اچھی کے-لیے تعمیر کے ضرورت تاکہ دے فضل اُن سننے-والوں
[G5100](#) [G0018](#) [G4314](#) [G3619](#) [G3588](#) [G5532](#) [G2443](#) [G1325](#) [G5485](#) [G3588](#) [G0191](#)

ملے برکت کو والوں سننے یوں کریں۔ تعمیر کی اُن مطابق کے ضروریات کی دوسروں جو باتیں ایسی صرف بلکہ نکلے نہ سے منہ کے آپ بات بُری بھی کوئی
 گی۔

30 καὶ μὴ λυπεῖτε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον τοῦ Θεοῦ, ἐν ᾧ
 اور نہ غمگین-کرو وہ روح وہ پاک کے خدا میں جس
[G2532](#) [G3361](#) [G3076](#) [G3588](#) [G4151](#) [G3588](#) [G0040](#) [G3588](#) [G2316](#) [G1722](#) [G3739](#)

ἐσφραγίσθητε εἰς ἡμέραν ἀπολυτρώσεως.
 مہر-لگائی-گئی دن کے-لیے مخلصی
[G4972](#) [G1519](#) [G2250](#) [G0629](#)

گے۔ جائیں بچ دن کے نجات اور ہیں کے اسی آپ کہ بے دی دے ضمانت یہ کر لگا مہر پر آپ نے اللہ سے اسی کیونکہ پہنچانا، نہ دکھ کو روح مُقدس کے اللہ

31 πᾶσα πικρία, καὶ θυμὸς, καὶ ὀργή, καὶ κραυγὴ, καὶ βλασφημία, ἀρθήτω
 ہر کڑواہٹ اور جوش اور غصہ اور چیخ اور بدگوئی اٹھائی-جائے
[G3956](#) [G4088](#) [G2532](#) [G2372](#) [G2532](#) [G3709](#) [G2532](#) [G2906](#) [G2532](#) [G0988](#) [G0142](#)

ἀφ' ὑμῶν, σὺν πάσῃ κακίᾳ.
 سے تم ساتھ تمام بدی
[G0575](#) [G4771](#) [G4862](#) [G3956](#) [G2549](#)

آئیں۔ باز سے رویے بُرے کے قسم ہر بلکہ گلوچ گالی شرابہ، شور غصے، طیش، تلخی، کی طرح تمام

32 γίνεσθε δὲ εἰς ἀλλήλους χρηστοί, εὐσπλαγχνοὶ, χαριζόμενοι ἑαυτοῖς, καθὼς
 بنو لیکن کے-لیے ایک-دوسرے مہربان رحمدل معاف-کرتے-ہوئے ایک-دوسرے جیسا-کہ
[G1096](#) [G1161](#) [G1519](#) [G0240](#) [G5543](#) [G2155](#) [G5483](#) [G1438](#) [G2531](#)

καὶ ὁ Θεὸς ἐν Χριστῷ ἐχαρίσατο ὑμῖν.
 بھی وہ خدا-نے میں مسیح معاف-کیا تمہیں
[G2532](#) [G3588](#) [G2316](#) [G1722](#) [G5547](#) [G5483](#) [G4771](#)

ہے۔ دیا کر معاف میں مسیح بھی کو آپ نے اللہ طرح جس کریں معاف یوں کو دوسرے ایک اور ہوں دل رحم اور مہربان پر دوسرے ایک